



وسیم اکرم اور بابر اعظم خواتین کرکٹرز کو آن لائن ٹیس دیں گے

- آن لائن سیشن یہ جاننے کا نادر موقع ہوگا کہ وسیم اکرم کیسے دوسروں سے منفرد کھلاڑی بنے، آلراؤنڈر عالیہ ریاض
- مڈل آرڈر بیٹر عمیمہ سہیل بابر اعظم کی بیٹنگ کی صلاحیتوں کے بارے میں جاننے کی منتظر
- ان سیشنز سے خواتین کرکٹرز کو کھیل میں نکھار کا موقع ملے گا، چیف سلیکٹر عروج ممتاز

لاہور، 3 مئی 2020ء:

پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی خواتین کرکٹ ٹیم کے لیے لیجنڈری وسیم اکرم اور بابر اعظم کے آن لائن سیشنز کا اہتمام کیا ہے۔ ان سیشنز کا مقصد خواتین کھلاڑیوں کو اعلیٰ پائے کے کرکٹرز سے کھیل کے گڑ سیکھانا اور کوویڈ 19 لاک ڈاؤن کے دوران ان کی توجہ کھیل پر برقرار رکھنے میں مدد دینا ہے۔

35 خواتین کرکٹرز پر مشتمل ان سیشنز کا انعقاد ویڈیو کانفرنس کال کے ذریعے کیا جائے گا، جس میں قومی خواتین کرکٹرز کو مختلف حالات میں جامع حکمت عملی اپنانے سے متعلق علم فراہم کیا جائے گا۔

آئی سی سی ہال آف فیم کے رکن اور پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے فاسٹ باؤلر وسیم اکرم، قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی کھلاڑیوں کو اپنے 18 سالہ طویل بین الاقوامی کرکٹ کیریئر سے حاصل ہونے والے تجربات سے آگاہ کریں گے۔ یہ سیشن پیر کے روز منعقد ہوگا۔ وسیم اکرم گذشتہ ہفتے مینز کرکٹرز کے ساتھ بھی ایسے ہی ایک سیشن میں شرکت کرچکے ہیں۔

اس دوران ٹی ٹونٹی عالمی رینکنگ میں پہلے، ایک روزہ کرکٹ میں تیسرے اور طویل طرز کی کرکٹ میں دنیا کے پانچویں بہترین بلے باز، بابر اعظم بھی خواتین کرکٹرز کو مختلف کنڈیشنز اور حالات میں بلے بازی سے متعلق گڑ سیکھائیں گے۔

عالیہ ریاض، آراؤنڈر:

قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی آراؤنڈر عالیہ ریاض کا کہنا ہے کہ وہ وسیم اکرم کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر بڑی ہوئی ہیں اور وہ بخوبی جانتی ہیں کہ وسیم اکرم نے اپنی عمدہ باؤلنگ اور بیٹنگ سے پاکستان کو کئی میچوں میں کامیابی دلائی۔

انہوں نے کہا کہ ماضی کے عظیم کرکٹرز سے کھیل کے بارے میں جاننے کا یہ بہترین موقع ہے اور وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی۔ عالیہ ریاض نے کہا کہ آن لائن سیشن ان کے لیے یہ جاننے کا نادر موقع ہوگا کہ وسیم اکرم کیسے دوسروں سے منفرد کھلاڑی بنے۔

عمیمہ سہیل، بیٹر:

قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی بیٹر عمیمہ سہیل کا کہنا ہے کہ بابر اعظم ایک اعلیٰ بلے باز ہیں جن کی آن لائن ٹپس سے ہمیں اپنی بیٹنگ کی صلاحیتوں میں نکھار لانے کا موقع ملے گا۔

انہوں نے کہا کہ وہ بابر اعظم سے مشکل صورتحال میں اننگز کا پراعتماد آغاز اور پھر اسے لمبی اننگز میں تبدیل کرنے کا فن سیکھنا چاہیں گی، یقین ہے کہ یہ سیشن اس حوالے سے مؤثر ثابت ہوگا۔

عروج ممتاز، چیف سلیکٹر قومی خواتین کرکٹ:

چیف سلیکٹر قومی خواتین کرکٹ عروج ممتاز نے کہا کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ کرکٹ کی سرگرمیوں کے تعطل کے دوران کرکٹرز کی توجہ کھیل پر مرکوز رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیشن قومی خواتین کرکٹرز کے لیے کھیل میں نکھار لانے کا بہترین موقع ہے۔

عروج ممتاز نے کہا کہ ہم کھلاڑیوں کو مصروف رکھنے کے لیے مختلف آئیڈیاز پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام خواتین کرکٹرز مینیجمنٹ اور بورڈ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور وہ اس دوران اپنے آپ کو اس انداز میں تیار کر رہی ہیں کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوتو وہ کھیل کے لیے تیار ہوں۔

چیف سلیکٹر نے کہا کہ قومی خواتین کرکٹرز فراہم کردہ پلانز کے مطابق اپنی فٹنس پر کام کر رہی ہیں جبکہ یہ آن لائن سیشن انہیں اسکولز میں نکھار کا موقع فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک نے کئی عظیم کرکٹرز پیدا کیے ہیں اور ہم کھلاڑیوں

کے آن لائن لیکچرز کے لیے ان کی دستیابی کو پیش نظر رکھ کر انہیں دعوت دیتے رہیں گے۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk
@therealpcb
@PakistanCricketBoard
@PakistanCricketOfficial
@therealpcb

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozepur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4